

## ویمن یونیورسٹی مردان اور ڈیری سائنس پارک مشترکہ لائحہ عمل پر متفق

ویمن یونیورسٹی مردان اور ڈیری سائنس پارک کے ماہرین کے درمیان ایک نشست ہوئی اور بائیو رسک منیجمنٹ (BRM / حیاتیاتی خطرات) اور خواتین کے لیے کاروباری مواقع پیدا کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی۔

ویمن یونیورسٹی کی نمائندگی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر غزالہ یاسمین، ڈاکٹر حنا جبین (ڈائریکٹر ORIC / چیئرپرسن مائیکروبیالوجی ڈیپارٹمنٹ) اور عدنان قریشی (PS to VC) نے کی۔ جبکہ ڈیری سائنس پارک کی طرف سے پروفیسر ڈاکٹر محمد سبحان قریشی (چیف پیٹرن ڈیری سائنس پارک / پروفیسر Theriogenology زرعی یونیورسٹی پشاور)، ٹیمینہ قریشی (ماہر معاشیات)، ڈاکٹر محمد حفیظ (اسسٹنٹ پروفیسر پولٹری سائنس) اور ڈاکٹر فریدہ (لیکچرر مائیکروبیالوجی) نے کی۔

ایک مشترکہ پراجیکٹ کے ذریعے متعلقہ اہداف کا حصول یقینی بنایا جائے گا۔ طلبہ اور پیشہ ور بائیو میڈیکل پیشے سے منسلک افراد کے حفظانِ صحت کا انتظام کیا جائے گا۔ فارمنگ اور پراسیسنگ یونٹس کے معیار کے جانچ کے لیے تحقیق کی جائے گی، کوالٹی سٹینڈرڈ قائم کیے جائیں گے اور متعلقہ قانون سازی کے لیے حکومت اور متعلقہ اداروں کو سفارشات بھیجے جائیں گے۔ مختلف اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ تعلیم یافتہ خواتین کے لیے لائیوسٹاک اور پولٹری سے متعلقہ خود روزگاری کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ BRM کے لیے نیا تجویز کردہ نصاب لاگو کیا جائے گا اور باقی یونیورسٹیوں میں بھی وہی نصاب متعارف کیا جائے گا۔ بائیو میڈیکل پیشہ ور افراد کو تربیت دینے کے لیے توسیعی پروگرام مرتب کیے جائیں گے۔ طلبہ، صنعتی نمائندوں، زمینداروں، سائنسدانوں اور پالیسی ساز افراد کی تربیت کی جائے گی۔

متعلقہ معاملات کے لئے شراکت داروں کے درمیان مشاورتی ادارہ قائم کیا جائے گا۔ مختلف حیاتیاتی خطرات کو کم کرنے کے لیے عوامی صحت کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا

درمیانے درجے کے کاروباروں کو رجسٹر کیا جائے گا ، متعلقہ تربیت اور تکنیکی تعاون مہیا کیا جائے گا اور کوالٹی کنٹرول سرٹیفیکیٹ جاری کیے جائیں گے .رجسٹرڈ فارموں کے پیداواری اشیاء مثلاً دودھ ، گوشت ، انڈے ، مشروم اور دیگر اشیاء ڈسپلے سنٹر کے ذریعے عوام کے لیے دستیاب کی جائیں گی .

وائس چانسلر نے اتنے کم نوٹس پر ڈیری سائنس پارک کے دوسرے دورے کے لیے وقت نکالنے پر پروفیسر قریشی اور اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور خواہش ظاہر کی کہ یونیورسٹی کے مائیکروبیالوجی پروگرام اور ORIC آفس کے مستقبل کے پروگراموں میں ڈیری سائنس پارک کی معاونت درکار ہو گی .

پروفیسر قریشی نے ویمن یونیورسٹی مردان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے پارک کو موقع دیا کہ اب تک ہونے والی پیش رفت کو سراہا اور اپنے تحقیق و ترقی میں اس کو جگہ دی . انہوں نے مستقبل میں ان مشترکہ کاوشوں کو جاری رکھنے کا عزم دہرایا اور امید ظاہر کی کہ ان کاوشوں کے نتیجے میں نوجوانوں اور خصوصاً تعلیم یافتہ خواتین کے لیے باعزت روزگار کا موقع ملے گا ، اور حلال و حفظانِ صحت کے معیار پر پوری اترنے والی خوراک مقامی آبادی اور عالمی منڈی کو برآمد کرنے کے لیے دستیاب ہو گی .

Muhammad Subhan Qureshi, PhD  
Professor of Theriogenology/  
Chief Patron, [Dairy Science Park](#)  
Agricultural University, Peshawar-25120, Pakistan  
Mobile 92-300-5877933; Office 091-9221027; Fax 0092 91 921 6520  
E.mail [drmsqureshi@aup.edu.pk](mailto:drmsqureshi@aup.edu.pk), skype: drmsqureshi  
Adjunct Professor, [CSU-NSW](#), Australia  
Chief Editor: [MSVPH](#)